

**Q.7 Translate the following passage into English keeping in view figurative/ idiomatic expressions. (10)**

آج کے دور کے انسان بے ترقی کا بوجھ سماتا ہے۔ اسے ایک دن لے لے کر کہیں بھیج دیا جائے گا۔ انسان بڑوں بڑوں ترقی کر رہا ہے لوگوں میں بے چینی، تباہی اور بے چینی کا انتشار کا نشانہ ہو رہا ہے۔ انسان مشینوں کا نام نہن کر رہا گیا ہے۔ جتنی تیزی سے انسان نے مادی ترقی کی ہے اسی رفتار سے اور اعلیٰ طور پر ذوال کائنات ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہر کام مشین کر رہی ہے پھر بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لی۔ ایس۔ ایٹ نے کہا تھا کہ جدید دور کا انسان ایک شخص سمرا پتا ہے اور جدید دور دنیا بھر میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں جدید انسان کی زندگی بے نزع اور گراہی ہے۔

(9)

Q No 7

Ans :

(Translation)

Humans dream of great development will lead to his own downfall, one day. Irritation, stress and mental disturbance are increasing with increase in his development. Humans has been slave to machines. As just the human has got successful in development as he has lost his spiritual life. Unsurprisingly, every task is being performed by machines still. human has no time. T.S. Elliot said, "Modern people are like statues and modern world is like a desert." No doubt, life of modern people has been spiritless.

dont skip urdu words and dont change the urdu context

need improvement

5/10